

جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریٹیکل انس پلان

اپنے پیاروں کے لئے بہترین علاج حاصل کریں۔

جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریٹیکل انس پلان کے ساتھ، ہم آپ اور آپ کے خاندان کو بہتر طبی علاج پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسے بہتر منصوبہ بندی سے حاصل کیا ہے۔

Jubilee Life Insurance Company Limited-Window Takaful Operations

Jubilee
FAMILY TAKAFUL

Serving you, the Right way

BankIslami Pakistan

www.bankislami.com.pk



24/7 Phone Banking
111-ISLAMI (111-475264)

جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریڈٹیکل انلین پلان

جب آپ کو ہرگز رتنے لمے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو زندگی الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ معاملات اُس وقت اور بھی الجھ سکتے ہیں جب اُن کا تعلق آپ کے سرمائے اور آپ کی صحت سے ہو۔

جوبلی لائف انشورنس کمپنی - ونڈو مکافل آپریشنز اپنے ڈسٹری بیوٹن پارٹنر بینک اسلامی کے ساتھ ایسی مشکلات، غیر یقینی صورت حال اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریڈٹیکل انلین پلان کے ذریعے آپ کی مدد کر سکتی ہے۔

اب جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریڈٹیکل انلین پلان سے آپ مکمل بہترین علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ جوبلی پرسنل سیلیکٹ کریڈٹیکل انلین پلان کو اس طور پر وضع کیا گیا ہے کہ اگر تشخیص سے یہ پتا چلے کہ آپ خدا خواستہ درج ذیل اٹھارہ (18) تشویش ناک بیماریوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہیں تو آپ کو ضروری مالی تحفظ فراہم کیا جائے۔

کور ہونے والی طبی حالتیں اور بیماریاں

1. سرطان	2. ملٹیل ایل میروسس
3. کروئیری آرٹری بائی پاس گرافٹ سرجری (CABGS)	4. فالج
5. ہارٹ ایک	6. پلاسٹک انجینیا
7. رینل فیلیر	8. ہٹن ہن برین ٹیومر
9. اسٹروک	10. بہرہ رن
11. سرجری آف ایورٹا	12. پھیپھڑوں کی بیماری کا آخری مرحلہ
13. بینائی سے محرومی	14. اعضا کا کٹ جانا
15. ہارٹ والو کی تبدیلی	16. قوت گویائی سے محرومی
17. اہم عضو کی پیوند کاری	18. میجر ہیڈ ٹروما

ان بیماریوں کی قطعی تعریفات، پارٹنر شپ ممبر شپ دستاویز میں بیان کی گئی ہیں۔



پلان کی اہم خصوصیات

- اہم بیماری کے ساتھ ادائیگی کی جانے والی رقم۔
- موت کے ساتھ معاوضے کی رقم کا 10% معاوضہ کے ساتھ۔
- 24/7 دن چوبیس گھنٹے سروس۔
- پاکستان بھر کے تمام بڑے ہسپتالوں میں قابل رسائی۔
- پارٹنیشن ممبرشپ کی اجراء کی تاریخ سہ ماہی 14 دن کے اندر ممبرشپ منسوخ کروا سکتا ہے۔

تکافل کیا ہے؟

”تکافل“ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ”باہم ایک دوسرے کا ضامن بننا“ ہے۔ یہ ایک برادری کی تنظیمی نظام ہے۔ اس کے تحت پارٹنیشن ضرورت کے موقع پر مشترکہ فنڈ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جو بھائی چارہ اور باہمی تعاون کے اصولوں کی بنیاد پر مبنی ہے۔ یہ نظام مندرجہ ذیل اصولوں پر کام کرتا ہے:

- 1- پارٹنیشن ”تفرع“ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کیلئے وقف پول میں ایک مقررہ رقم ادا کرتے ہیں جسے ”کٹری بیوشن“ کہا جاتا ہے اور اس فنڈ کو ”وقف فنڈ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- 2- وفد و تکافل آپریٹر بحیثیت وکیل بڑی جاں فشانی اور حکمت کے ساتھ وقف فنڈ کا انتظام و انصرام کرتا ہے جسے گروپ فیملی تکافل شرکا (GFTPF) کہتے ہیں۔
- 3- کلیمز کی ادائیگی انفرادی فیملی تکافل شرکا (GFTPF) سے کی جاتی ہے۔
- 4- اضافی رقم ہونے کی صورت میں GFTPF میں موجود رقم کی تقسیم شریعہ ایڈوائزر اور کمپنی کے مقرر کردہ ایچ آر کی منظوری سے کی جاتی ہے۔

فیملی تکافل پلان کیا ہے؟

فیملی تکافل پلان باہمی تعاون، استحکام اور کمیونٹی کے فوائد کے لئے شرعی اصولوں کی مدد سے ترتیب دیا جاتا ہے۔

تکافل کے زیر انتظام افراد باہمی تعاون کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے مستقبل میں ہونے والے خطرات کو تقسیم کرتے ہیں۔

فوائد

اس پلان کا مقصد یہ ہے کہ مہینہ کی گئی ممبرشپ کی مدت کے دوران اگر کوئی رقم ہونے والے شخص میں خدانخواستہ مذکورہ بالا بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کی بھی تشخیص ہو جاتی ہے اور وہ تشخیص کے بعد تیس (30) دن تک زندہ رہتا ہے تو اسے یکمشت رقم (کوئی رقم) فراہم کی جاسکے۔ اس پلان کے تحت زیادہ سے زیادہ ہونے والا فائدہ 2.5 ملین روپے تک ہو سکتا ہے۔ کوئی رقم ہونے والے شخص کی موت اگر تیس (30) دن کی مدت کے اندر ہو جاتی ہے یا اس کی موت تشویشناک بیماری کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے تو اس صورت میں نام زد کنندگان کو کوئی رقم ہونے والی رقم کا 10% فیصد ادا کیا جائے گا۔ پلان کے تحت ممبرشپ کی اجراء کے 90 دن کے بعد، کوئی رقم کا آغاز ہوگا۔

سالانہ کنٹری بیوشن کا انحصار عمر، جنس اور دیگر عناصر پر ہوگا۔ کنٹری بیوشن ادائیگی کی مدت، ممبر شپ کی مدت کی مناسبت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔

کنٹری بیوشن ادائیگی کی مدت	ممبر شپ کی مدت
3	5
4	6
5	7
5	8
6	9
6	10
7	11
8	12
8	13
9	14
10	15

قابل قبول عمر اور مدت

اندراج کے وقت پارٹیسپنٹ کی عمر قریب ترین تاریخ پیدائش پر 18 سال سے 50 سال کے درمیان ہونا چاہیے۔ پارٹیسپنٹ کے انتخاب کے مطابق، کورپانچ (5) سے پندرہ (15) سال کے درمیان باقی رہ سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ میچورٹی کے وقت زیادہ سے زیادہ عمر (60) سال ہو۔

اہم نوٹ:

منصوبہ اس سے پہلے ختم ہو جائے گا:

1. زندگی کا احاطہ کیا ہوا موت
2. لائف کورڈ فراڈ میں ملوث ہے۔
3. رکنیت کے خاتمے کی تاریخ یا رکنیت کی دستاویز کی شرائط میں سے کسی کی وجہ سے رکنیت ختم کر دی گئی۔
4. رعایتی مدت کے اندر پلان کی تجدید نہ کرنے پر
5. رکنیت کی سالگرہ لائف کورڈ کی 61 ویں سالگرہ سے پہلے آنے والی

استثنائات

ممبر شپ کی تاریخ آغاز سے پہلے اُس وقت کی موجودہ کسی بھی طبی حالت کے ذریعے ہونے والی یا برہنے والی تشویش ناک بیماری جیسے کہ خود متاثرہ چوٹ، جہل اور متعلق حالتیں، ایڈز اور جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری، اس پلان کے تحت کو نہیں ہوں گی۔ اس پلان پر ہونے والی قابل اطلاق استثنیات کی مکمل فہرست کے لیے ازراہ کرم، پارٹیسپنٹ ممبر شپ دستاویز ملاحظہ کریں۔

جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریٹیکل انلنس پلان میں کون سی فیسوں کا اطلاق ہوگا؟

جوبلی پرسنل سیلیکٹ - کریٹیکل انلنس پلان میں درج ذیل فیسوں کا اطلاق ہوگا:

وکالہ فیس* (درج ذیل پر مشتمل ہے)	
ممبر شپ فیس	Rs.500
GFTPF سے وصول کی جانے والی وکالہ فیس*	- ہر تکافل کنٹری بیوشن کا کچھ حصہ پارٹنیشنٹ ممبر شپ ڈاکیومنٹ میں موجود تفصیلات کے مطابق فنانڈ کی ادائیگی کے لئے مختص ہوگا۔
مضارب شیئر*	ونڈ و تکافل آپریٹر (مضارب)، GFTPF (رب المال) کی سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع میں مضاربہ کی بنیاد پر 40% کا حقدار ہوگا۔
سرمایہ کاری کی آمدنی سے شراکت	

* ونڈ و تکافل آپریٹر کی جانب سے اس میں تبدیلی بھی کی جاسکتی ہے۔

منافع کی تقسیم

تکافل پلان اپنے پارٹنیشن کو صرف خطرات سے تحفظ ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ GFTPF میں بچ جانے والی رقم (سریس) بھی پیش کرتا ہے۔ یہ پارٹنیشنٹ کو پیش کی جانے والی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ جو پارٹنیشنٹ ایک رقم (عطیہ) بطور تیرع کنٹری بیوشن ادا کرے گا وہ وقف فنڈ سے ممکنہ سریس کی وصولی کا اہل ہو سکتا ہے۔ اگر بیان کردہ مدت کے اختتام پر کلیمز اور دیگر لاگت کی ادائیگی کے بعد اضافی رقم بچ گئی تو وہ درج ذیل مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔

1. فنڈ کا ایک حصہ وقف پول کو مستقبل میں مستحکم کرنے کے لئے مختص کیا جائے گا تاکہ آئندہ آنے والے بڑے کلیمز کی ادائیگی میں سہولت ہو۔
2. باقی موجودہ رقم (سریس) پارٹنیشنٹ میں منصفانہ طور پر تقسیم کی جاسکتی ہے۔

بچ جانے والی اضافی رقم (سریس) کسی بھی صورت میں ونڈ و تکافل آپریٹر کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ یہ بڑے پیمانے پر ہمیشہ پول اور عوام کے مفاد میں استعمال کی جائے گی۔

فری لنگ پیریڈ

پرسنل سیلیکٹ - کریٹیکل انلنس پلان آپ کو آفر کرتا ہے کہ 14 دن کا فری لنگ پیریڈ جس میں آپ پلان کی تمام شرائط و ضوابط کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ممبر شپ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ممبر شپ کی اجراء کی تاریخ درمیان وسط 14 دن کے اندر ممبر شپ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جوبلی فیملی تکافل بہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ آپ کے طبی یا مالیاتی ایگز امینیشن پر ہونے والے اخراجات (اگر کوئی ہیں)، اور ممبر کے ذریعہ GFTPF میں کوئی بھی تکافل کنٹری بیوشن کی ادائیگیوں کی کٹوتی کرے۔

ہمارے شریعہ ایڈوائزر:

ہماری تمام پروڈکٹس ایک ماہر باصلاحیت شرعی ایڈوائزر کی زیر نگرانی شریعت کے اصولوں کے مطابق منظور شدہ ہوتی ہیں۔

اسکے علاوہ ایک انٹرنل شریعہ کمپلائنس ڈیپارٹمنٹ سرمایہ کاری اور آپریشنل مسائل کے لیے شریعت کے اصولوں کے مطابق رہنمائی اور حل فراہم کرتا ہے۔

ونڈو تکافل آپریٹر کے شریعہ کمپلائنس کو مزید مضبوط کرنے کے لئے ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ بھی کیا جاتا ہے۔

انتباہ:

- یہ پروڈکٹ جوہلی - ونڈو تکافل آپریٹر کی جانب سے تحریر کی گئی ہے۔ بینک اسلامی یا اُس کا کوئی ملحقہ ادارہ نہ ہی اس پروڈکٹ کی ضمانت دیتا ہے اور نہ ہی اس کا تحفظ کرتا ہے، اور نہ ہی یہ بینک کی پروڈکٹ ہے۔
- تکافل کنسلٹنٹ کی جانب سے فنانس کی ایک ذاتی السٹریشن فراہم کی جائیگی۔ ازراہ کرم السٹریشن میں دی گئی تمام تفصیلات اور مختلف شرائط و ضوابط اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
- براہ کرم پارٹنر شپ ممبر شپ ڈاکیومنٹ (PMD) پر دی گئی تفصیلات اور مختلف شرائط و ضوابط اچھی طرح سمجھ لیجئے۔
- بینک اسلامی لمیٹڈ، جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی جانب سے بطور ڈسٹری بیوٹر کام کر رہا ہے اور کسی بھی شخص کے سامنے، بشمول لیکن کورڈکسٹرز، نامزد کنندہ / کنندگان یا تھرڈ پارٹی تک محدود نہیں ہے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی بات کا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہوگا۔
- جوہلی لائف ونڈو تکافل آپریشنز اس تکافل کور کانڈر رائٹر اور فراہم کنندہ ہے اور ممبر شپ کی خدمت، لاجسٹکس، پروسیسنگ اور کورڈکسٹرز اور مینیجیشنز کے کلیم کے تصفیہ کا ذمہ دار ہے۔

جوہلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ

ونڈو تکافل آپریشنز

ہیڈ آفس: A-74/1-1 لالہ زار، ایم ٹی خان روڈ کراچی 74000، پاکستان۔

ٹیلی فون: 32120201, 35205094 (021)

فیکس: 35610805, 35610959 (021)

ایس ایم ایس: اپنا سوال لکھ کر 8554 پر ارسال کریں

ای میل: info@jubileelife.com, complaints@jubileelife.com

ویب سائٹ: www.jubileefamilytakaful.com

یو اے این: (JLI) 111-111-554 (021)

جوبلی فیملی تکافل۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی شرعی حیثیت

جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر کی حیثیت سے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جوبلی فیملی تکافل کے ”جوبلی پرسنل سیلیکٹ۔ کریڈیٹل انس پلان“ وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ میں نے اس سے متعلق تمام امور جس میں دستاویزی کاغذات بشمول ممبر شپ دستاویز کا بغور جائزہ لیا ہے، مزید یہ کہ فیملی تکافل کی سرمایہ کاری اور اس سے متعلق تمام فنڈز کا جائزہ لیا ہے اور بحمد اللہ ان تمام امور کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پایا ہے۔

لہذا میری رائے میں جوبلی لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کے ”جوبلی پرسنل سیلیکٹ۔ کریڈیٹل انس پلان“ کی رکنیت لینا، وقف فنڈ میں تعاون کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔



مفتی ذیشان عبدالعزیز

شرعی مشیر: جوبلی لائف انشورنس کمپنی۔ ونڈو تکافل آپریشنز

